


موزوے



## Magozwe

- Lesley Koyi
- Wiehan de Jager
- Samrina Sana
- urdu / nynorsk
- nivå 5



نیروبی کے معروف شہر میں گھر کی دیکھ بھال سے بہت دور ایسے لڑکوں کی ایک ٹولی رہتی تھی جن کے پاس گھر نہیں تھا۔ وہ ہر آنے والے دن کو ایسے ہی گزار دیتے جیسے وہ گزرتا۔ ایک صحیح ٹھہڈی سڑک پر سو کر اٹھنے کے بعد لڑکے اپنے بستر لپٹ رہے تھے۔ سردی کو بھا نے کے لیے، انہوں نے کوڑے کی مدد سے آگ جلانی ہوئی تھی۔ لڑکوں کی ٹولی میں سے سب سے چھوٹا مگوزے تھا۔

...

I den travle byen Nairobi, langt frå det trygge livet heime, budde det ein gjeng heimlause gutter. Dei tok kvar dag akkurat som han kom. Ein morgon pakka gutane saman mattene sine etter at dei hadde sove på det kalde fortauet. For å fordriva kulda laga dei eit bål av søppel. Ein av gutane i gjengen var Magozwe. Han var den yngste.



جب مگوزے کے والدین نے وفات پائی تو وہ صرف پانچ سال کا تھا۔ وہ اپنے چاکے ساتھ رہنے کے لیے چلا گیا۔ اُس آدمی نے کہہ جپے کا خیال نہ رکھا۔ وہ مگوزے کو کہہ پیٹ بھر کھانا دیتا۔ اُس نے جپے سے بہت حنفت کروائی۔

...

Då Magozwe sine foreldre døydde, var han berre fem år. Han drog for å bu med onkelen sin. Denne mannen brydde seg ikkje om barnet. Han gav ikkje Magozwe nok mat. Han tvinga guten til å jobba hardt.



اگر مگوزے شکایت کرتا یا سوال اٹھاتا تو اُس کے چہا اُس کو مارتا۔ جب مگوزے نے سکول جانے کے لیے پوچھا تو اُس کے چہا نے اُسے مارا اور کہا تم سیکھنے کے قابل نہیں ہو۔ تین سال یہ سب سہنے کے بعد مگوزے اپنے چہا کے گھر سے بھاگ گیا۔ اُس نے گلی پر رہنا شروع کر دیا۔

...

Viss Magozwe klaga eller stilte spørsmål, slo onkelen hans han. Når Magozwe spurde om han kunne gå på skulen, slo onkelen hans han og sa: "Du er for dum til å læra noko som helst." Etter tre år med denne behandlinga rømde Magozwe frå onkelen sin. Han byrja å bu på gata.



گلیوں کی زندگی بہت میسکل تھی۔ اور بہت سے لڑکے کے روزانہ کھانے کے بندوبست کے لیے بہت جدوجہد کرتے۔ کوئی مرتبہ وہ گرفتار ہو جاتے، کوئی دفعہ انہیں مارا پیٹا جاتا۔ جب وہ بیمار پڑتے تو کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آتا۔ لڑکوں کی ٹولی کا گزارا صرف بھیک میں مانگتے ہوئے پیسے اور کوڑا کرکٹ میں پڑے پلاسٹک کو پچنے سے ہوتا۔ زندگی اور بدترین ہو جاتی جب انہیں وہاں رہنے کے لیے وہاں کے باشندوں سے لڑنا پڑتا جو کہ شہر کے باقی حصوں پر بھی حکومت کرنا چاہتے تھے۔

...

Livet på gata var vanskeleg, og dei fleste gutane sleit kvar dag berre for å finna mat. Nokre gonger vart dei arrestert, andre gonger vart dei slått. Når dei vart sjuke, var det ingen som kunne hjelpe dei. Gjengen var avhengig av dei få pengane dei fekk frå å tigga og frå å selja plast og anna til resirkulering. Livet var endå vanskelegare på grunn av slåsskampar med


rivaliserande gjengar som ville ha kontroll over delar av byen.



ایک دن مگوزے کوڑے کی ڈکریاں چھان رہا تھا تو اُس سے پھٹ پرانی ایک کہانی کی کتاب ملی۔ اُس نے کتاب سے دھول جھاڑی اور اُس سے اپنے تھیڈلے میں ڈال لیا۔ ہر روز اُس کے بعد وہ کتاب نکالتا اور اُس پر بہت تصویریں دیکھتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ الفاظ کو کیسے سے پڑھنا ہے۔

...

Ein dag medan Magozwe leitte i nokre søppelbøtter, fann han ei gammal fillete barnebok. Han fjerna mørkka frå ho og la den i sekken sin. Kvar påfølgjande dag tok han ut boka og såg på biletta. Han visste ikkje korleis han skulle lesa orda.



تصاویر ایک ایسے لڑ کے کی کہانی پیش کرتیں جو بڑا ہو کر کپتان بننا چاہتا تھا۔  
 مگزے صرف اس کے خواب دیکھ سکتا تھا۔ کچھ وقت کے لیے وہ یہ  
 خیال کر لیتا کہ کہانی میں موجود لڑکا وہ خود ہے۔

...

Bileta fortalte forteljinga om ein gut som voks opp til å verta pilot. Magozwe brukte å dagdrøyma om å verta pilot. Nokre gonger innbilte han seg at han var guten i forteljinga.



بہت ٹھیمڈ تھی اور مگزوے سڑک پر کھڑا جھیک مانگ رہا تھا۔ ایک آدمی چلتے ہو آئے اُس کے پاس آیا۔ ہیلو، یہ نام تھامس ہے۔ میں یہاں نزدیک ہی کام کرتا ہوں۔ ایسی جگہ جہاں تم میں کھا نے پہنے کے لیے کچھ آسانی سے مل سکتا ہے آدمی نے کہا۔ اُس نے ایک پلٹے گھر کی طرف اشارہ کیا جس کی چھت نیلی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم وہاں کچھ کھانا لینے جاو گے؟ اُس نے پوچھا۔ مگزوے نے آدمی کی طرف دیکھا اور پھر اُس گھر کی طرف دیکھا۔ شاید! اُس نے کہا، اور چلا گیا۔

...


Det var kaldt og Magozwe stod langs vegen og tagg. Ein mann gjekk bort til han. "Hei, eg heiter Thomas. Eg bur i nærleiken, på ein stad der du kan få deg noko å eta", sa han og peikte på eit gult hus med blått tak. "Eg håpar du dreg dit for å få deg litt mat?" spurde han. Magozwe såg på han, og deretter på huset. "Kanskje", sa han og gjekk.



کچھ ہیوں بعد، گھر کے بعیر لڑکوں نے روز تھامس کو اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا اُ سے لوگوں سے بات کرنا پسند تھا۔ خاص طور پر ان لوگوں سے جو گلبوں میں رہتے۔ تھامس ان سے اُن کی زندگی کی کہانیاں سُشتا۔ وہ بہت سچیدہ اور صبر میں رہتا اور کہیں اُن سے تلخ کلامی اور بد تیزی نہ کرتا۔ کچھ لڑکے اُس پہلے اور نیلے گھر میں دوپھر کو کھانا لینے جا تے۔

...

I månadene som følgde vart dei heimlause gutane vande til å sjå Thomas. Han likte å snakka med folk, spesielt dei som budde på gata. Thomas høyrde på forteljingar om livet til folk. Han var seriøs og tolmodig, aldri frekk eller respektlaus. Nokon av gutane byrja å dra til det gule og blå huset for å få mat midt på dagen.



مگزوے سڑک پر یہا کتاب میں اپنی تصویر دیکھ رہا تھا۔ جب تھامس آکر اُس کے پاس یہا۔ یہ کہانی کس بارے میں ہے؟ تھامس نے پوچھا۔ یہ ایسے لڑ کے کے بارے میں ہے جو کہ کپتان بن مگزوے نے جواب دیا۔ اُس لڑ کے کا کیا نام ہے؟ تھامس نے اُس سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، میں پڑھ نہیں سکتا مگزوے نے چپکے سے جواب دیا۔

...

Magozwe sat på fortauet og kika i biletboka då Thomas kom og sette seg ved sida av han. "Kva handlar forteljinga om?" spurde Thomas. "Ho handlar om ein gut som vert pilot", svara Magozwe. "Kva heiter guten?" spurde Thomas. "Eg veit ikkje, eg kan ikkje lesa", svara Magozwe lågt.



جب وہ ملے، مگزوے تھامس کو اپنی کہانی بتا نے لگا۔ یہ اُس کے چاکی کہانی تھی کہ وہ وہاں سے کیوں جھاگا۔ تھامس زیادہ بات نہیں کرتا تھا نہ ہی اُس نے مگزوے کو بتایا کہ اُسے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ اُسے ہمیشہ غور سے سئتا۔ کچھ دیر وہ لوگ چلتے جبکہ وہ نیلی چھت والے گھر میں کھانا کھا تے۔

...

Då dei møttest, byrja Magozwe å fortelja si eiga historie til Thomas. Det var historia om onkel hans og kvifor han rømde heimanfrå. Thomas snakka ikkje mykje, og han sa ikkje til Magozwe kva han skulle gjera, men han lytta alltid oppmerksamt. Nokre gonger snakka dei saman medan dei åt i det gule huset med det blå taket.



مگوزوے کی دسویں سالگرہ پر تھامس نے اُس کو ایک نئی کہانی کی کتاب تھفے میں دی۔ یہ کہانی ایک گاؤں کے لڑکے کے بارے میں تھی۔ جو کہ بڑا ہو کر ایک مشہور فٹبُلر بننا چاہتا تھا۔ تھامس نے مگوزوے کو وہ کہانی کئی بار پڑھ کر سہنائی۔ حق کہ ایک دن اُس نے کہا یہ رے خیال سے تمیں سکول جانا چاہیے اور پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تھامس نے اُس سے تعلیم سے بتایا کہ وہ ایک جگہ کے بارے میں جانتا ہے جہاں جپے رہ سکتے ہیں اور سکول جا سکتے ہیں۔

...

Omkring Magozwes tiande fødselsdag gav Thomas han ei ny barnebok. Det var forteljinga om ein landsbygut som voks opp til å verta ein berømt fotballspelar. Thomas las den forteljinga for Magozwe mange gonger, heilt til han ein dag sa: "Eg synest det er på tide at du går på skulen og lærer å lesa. Kva synest du?" Thomas forklarte at han visste om ein stad der born kunne bu og

gå på skule.



مگوزے نے اُس نئی جگہ اور سکول جانے کے بارے میں سوچا، کیا ہو  
اگر اُس کے پچاکی کہی بات ٹھیک نکلی اور وہ واقعی پڑھ لکھنے سکا؟ کیا ہو گا اگر  
اُس نئی جگہ پر اُس سے مارپڑی؟ وہ خوف ذہ تھا کہ شاید گلی میں رہنا ہی بہتر ہے  
اُس نے سوچا۔

...

Magozwe tenkte på denne nye staden og på å gå på skulen. Kva om onkelen hans hadde rett og han var for dum til å læra noko? Kva om dei slo han på denne nye staden? Han var redd. "Kanskje det er betre å bu på gata", tenkte han.



اُس نے اپنے ڈر تھامس سے بانٹے۔ تھامس نے اُسے بارہا یقین دلایا کہ تمیں زندگی نہیں جگہ پر بہت اچھی ہو گی۔

...


Han snakka om det han var redd for med Thomas. Med tida forsikra mannen guten om at livet kunne verta betre på den nye staden.



اور اس طرح مگزوے ایک نہ کھرے میں داخل ہوا جس کی چھت سبز تھی۔  
وہاں اُس نے دو اور لڑکوں کے ساتھ کھرہ بانگا۔ اُس گھر میں کل دس  
بچے رہتے تھے۔ آنٹی سیسی اور ان کے خاوند، تین کھتے، ایک بلی اور  
ایک بوڑھی بکری کے سہیت۔

...

Dermed flytta Magozwe inn i eit rom i eit hus med grønt tak. Han delte rommet med to andre gutter. Til saman var det ti born som budde i det huset. Saman med tanta Cissy og mannen hennar, tre hundar, ein katt og ei gammal geit.



مگوزے نے سکول جانا شروع کیا جو کہ میسٹر تھا۔ اُسے بہت کچھ سیمکھنا تھا کہ جی کچھار وہ سب چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ لیکن اُس نے اُس فٹپال اور کپتان کے بارے میں سوچا جو کہ کہانیوں میں موجود تھے۔ اُن کی طرح اُسے ہار نہیں ماننی تھی۔

...

Magozwe byrja på skulen, og det var vanskeleg. Han hadde mykje å ta att. Av og til ville han gje opp. Men han tenkte på piloten og fotballspelaren i barnebøkene. Som dei gav han ikkje opp.



مگزوے سبز پھرت وا اے گھر کے باغیچے میں یہا ایک کہانی کی کتاب پڑھ رہا تھا جو کہ اُس سے سکول کی طرف سے ملی تھی۔ تھامس اُس کے پاس آ کر یہا۔ کہانی کس بارے میں ہے؟ تھامس نے پوچھا؟ یہ ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو اسٹاد بینا چاہتا تھا۔ مگزوے نے جواب دیا۔ اُس لڑکے کا نام کیا ہے؟ تھامس نے پوچھا؟ اُس کا نام مگزوے ہے، اُس نے مسکرا تے ہو آئے کہا۔

...

Magozwe sat på tunet ved huset med det grøne taket og las ei barnebok frå skulen. Thomas kom og sat seg ved sida av han. "Kva handlar forteljinga om?" spurde Thomas. "Ho handlar om ein gut som vert lærar", svara Magozwe. "Kva heiter guten?" spurde Thomas. "Han heiter Magozwe", svara Magozwe med eit smil.



# Barnebøker for Norge

[barneboker.no](http://barneboker.no)

موزوے

## Magozwe

Skrevet av: Lesley Koyi

Illustret av: Wiehan de Jager

Oversatt av: Samrina Sana (ur), Espen Stranger-Johannessen, Martine Rørstad Sand (nn)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreforsmidt av Barnebøker for Norge ([barneboker.no](http://barneboker.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons  
[Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens](#).